

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن

نئی دہلی

پریس ریلیز

27 اکتوبر 2020

جامعہ ملیہ اسلامیہ ملازمین کو رجسٹرار نے ایمانداری اور سالمیت کا حلف دلایا

بدعنوانی ہمارے ملک کی معاشی ، سیاسی اور معاشرتی ترقی کی راہ میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ کی حیثیت سے پاؤں پھیلا چکی ہے ، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ملازمین نے آج کوڈ 19 کے سبب معاشرتی فاصلاتی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بدعنوانی سے پاک ہندوستان کی تعمیر کا عہد لیا۔ یہ عہد رجسٹرار اے پی صدیقی (آئی پی ایس) نے دلایا۔

یہ عہد 27 اکتوبر تا 02 نومبر 2020ء تک عوامی سطح پر سالمیت کی اہمیت پر زور دینے اور 'بدعنوانی کے خلاف صفر رواداری' کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے عزم کو ظاہر کرنے کے لئے وجیلنس آگاہی ہفتہ کے ایک حصے کے طور پر منایا جانا ہے۔ اس ہفت کا موضوع 'چوکنا ہندوستان ، خوشحال ہندوستان' ہے۔

ملازمین نے ، دوسری چیزوں کے ساتھ ، اخلاقیات کے ساتھ اصول و ضوابط کو فروغ دینے اور دیانتداری کے کلچر کو عام کرنے کا عہد کیا۔ جس کا مقصد رشوت پیش کرنے یا قبول کرنے کے لئے نہیں۔ شفافیت ، احتساب اور انصاف پر مبنی اچھی کارپوریٹ گورننس کی طرف وابستگی؛ کاروبار کے انعقاد میں متعلقہ قوانین ، قواعد اور تعمیل کے طریقہ کار پر عمل کرنا؛ تمام ملازمین کے لئے اخلاقیات کی پاسداری - قانون ، قواعد و ضوابط وغیرہ کے کام سے متعلق حساس بنانا؛ شکایات اور جلسازانہ سرگرمیوں کی اطلاع دہندگی کے لئے بڑے پیمانے پر اسٹیک ہولڈرز اور معاشرے کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لئے شکایات کے ازالا کرنا ہے۔

مرکزی ویجی لینس کمیشن (سی وی سی) عوامی زندگی میں امکانات کو فروغ دینے اور بدعنوانی سے پاک معاشرے کے حصول کے لئے کوشش کرنا ہے ۔

احمد عظیم

پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر

